

214273- جو کوئی شخص قرآن کریم میں کسی ایک حرف کی کسی یا بیشی عدا کرے تو اس نے کفر کیا۔

سوال

بسا اوقات امتحانات میں بچوں سے کسی مسئلے کی دلیل کے طور پر آیت لکھنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اب طلبہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ بھول رہا ہو تو اس کی جگہ خود سے کوئی لفظ پاس ہونے کے لیے لکھ دیتے ہیں، انہیں خدشہ ہے کہ اگر جگہ خالی رہی تو فیل ہو جائے گا، لیکن اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو لفظ میں نے لکھا ہے وہ تحریف میں آتا ہے، اب اس کا مقصد حقیقت میں قرآنی تحریف کا ارتکاب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فیل ہونے کے ڈر سے من چاہا لفظ خالی جگہ میں لکھ دیتا ہے جو کہ اس وقت ذہن میں نہ آنے والے صحیح لفظ کی جگہ ہوتا ہے۔

تو کیا اسے قرآن میں تحریف کہیں گے؟ کہ انسان اس حرکت کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے؟

پسندیدہ جواب

پہلے سوال نمبر: (158204) کے جواب میں گزر چکا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سورت پڑھتے ہوئے غلطی لگے، یا بھول جائے اور وہ نماز کی حالت میں ہو تو اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور بھولا ہوا لفظ زبان پر لانے کی کوشش کرے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اگلی آیت کی طرف منتقل ہو جائے، یا یہ سورت ترک کر کے کوئی اور سورت شروع کر لے۔ لیکن عدا قرآن کریم میں ایسا اضافہ جو قرآن کا حصہ بھی نہیں ہے چاہے یہ اضافہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں تو یہ شدید نوعیت کا حرام عمل ہے، بلکہ اہل علم نے صراحت کی ہے کہ جس شخص نے بھی قرآن کریم کا ایک حرف کم کیا، یا کسی اور حرف سے بدلا، یا اس میں کسی حرف کا اضافہ کیا تو اس نے کفر کیا۔

چنانچہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"مسلمانوں کا اجماع ہے کہ پوری دنیا میں جس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جو مصحف کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، اس کے دونوں گتوں کے درمیان سورت الفاتحہ کی الحمد سے لے کر سورت الناس کی "والناس" تک قرآن ہے اور وہ اللہ کا کلام اور وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، نیز اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ حق ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص عدا قرآن کریم کے ایک حرف کو کم کر دے، یا کسی اور حرف سے بدل دے، یا ایک ایسے حرف کا اضافہ کر دے جو کہ مجمع علیہ قرآن کریم کے نسخوں میں نہیں ہے، اور سب کا اجماع ہے کہ وہ اضافہ قرآن بھی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص کافر ہے۔" ختم شد
ماخوذ از: "الشفاء" (304/2-305)، مزید کے لیے دیکھیں: "التقریر والتجیر" از ابن امیر الحاج: (215/2)

اسی طرح "الموسوۃ الفقہیۃ" (214/35) میں ہے کہ:

"قرآن کریم اللہ کا معجزہ کلام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور ہم تک تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے عدا غلطی کرنا بالکل حرام ہے، چاہے اس سے معنی تبدیل ہو یا نہ ہو؛ کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ بھی توقیفی ہیں یہ الفاظ بھی ہم تک تو اتر کے ساتھ پہنچے ہیں، اس لیے قرآن کریم کے کسی لفظ کو یا اس کے اعراب کی تبدیلی، یا حروف کی تبدیلی کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔" ختم شد

ان تفصیلات کی بنا پر:

کسی بھی طالب علم کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی لفظ یا حرف ایسا لکھے جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یا اسے یقین ہے کہ یہاں اس لفظ کی جگہ نہیں ہے۔

بلکہ غلط جواب دینے کی بجائے یاد کرنے کی کوشش کرے کہ یہاں اصل لفظ کیا ہے، یا پھر اس جگہ کو خالی چھوڑ دے، اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ لکھے۔ طالب علم یہ بھی کر سکتا ہے کہ خالی جگہ چھوڑ کر معذرت لکھ دے کہ لفظ کے بارے میں شک تھا اور قرآن کریم کا غیر یقینی لفظ لکھنا میرے لیے ممکن نہیں اس لیے جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔

واللہ اعلم